

30 اگست 2018

2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے امیدواروں کے لیے معلوماتی نشست

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن 2018 میونسپل الیکشن کے مصدقہ امیدواروں کے لیے بروز جمعرات، 13 ستمبر 2018 کو ایک معلوماتی نشست کا انعقاد کرے گا۔ یہ معلوماتی نشست سنچری گارڈنز ریکرینیشن سنٹر، 340 ووڈن اسٹریٹ ایسٹ، برامپٹن میں شام 7 بجے سے رات 9 بجے تک منعقد کی جائے گی۔

اس نشست میں الیکشن سے متعلق کئی موضوعات پر بات چیت ہو گی، جن میں ووٹر کی اہلیت، پیشگی ووٹنگ، امیدوار اور سکرٹنیر کے طرز عمل، مالی رپورٹنگ اور الیکشن کے نشانات کے ضوابط شامل ہیں۔ ایک الیکٹرانک ووٹ ٹیبیولیٹر اور معذور افراد کے لیے بنائی گئی ایک ووٹنگ یونٹ موقع پر دیکھنے کے لیے موجود ہو گی۔

امیدواروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کی تصدیق کرنے کے لیے bramptonvotes@brampton.ca پر ای میل کر کے رجسٹر ہوں۔ اگر کوئی امیدوار شرکت نہیں کر سکتا، تو اپنی جانب سے کسی نمائندے کو رجسٹر کرایا جا سکتا ہے۔ رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہو جانی چاہیے۔

سٹی کلرک اور 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر، پیٹر فے کا کہنا تھا کہ "میونسپل الیکشنز میں دو مہینے سے کم باقی وقت کے ساتھ، ہم امیدواروں کو الیکشن کے عمل کے متعلق مزید جاننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اور ہم اس میں برامپٹن کے متعلق مخصوص معلومات شیئر کریں گے۔"

امیدواروں کے لیے معلوماتی نشست کے متعلق سوالات کے لیے، شوانا ڈائنٹن، الیکشن کوآرڈینیٹر، سے 905.874.3952 پر رابطہ کریں۔ 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے متعلق مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca/bramptonvotes ملاحظہ کریں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔